



ٹڈی دل-ایک آفت ناگہانی

LOCUST – A DISASTER



JAVERIA ASGHAR
AGRI TRIPLEIS

Desert Locust in Pakistan

تعارف Introduction

ٹڈی کا شمار حشرات میں ہوتا ہے، تنہا ٹڈی بے ضرر ہوتی ہے لیکن جب یہ جھنڈ کی صورت میں، جسے ٹڈی دل کہا جاتا ہے، نمودار ہوتی ہیں تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی جسامت اور رنگوں میں فرق ہوتا ہے بعض ٹڈیاں سرخ، زرد اور بعض سفید رنگ کی ہوتی ہیں۔ ان کی ۶ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ مادہ ٹڈی انڈے دینے کے لیے ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں سے انسان کا گزر تک نہ ہوتا ہو۔



زراعت پاکستان کی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ پاکستان میں جغرافیائی اعتبار سے کافی علاقہ ممکنہ طور پر ٹڈیوں کے حملے کا شکار ہے کیونکہ پاکستان میں موسم گرما اور بہار دونوں موسم ٹڈیوں کی افزائش کے لیے موزوں ہیں۔ لوکسٹ، ٹڈی یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والا ایک مشہور کیڑا ہے۔ عام طور پر ٹڈیاں اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں لیکن بعض اوقات وقت اور حالات کے حساب سے یہ اپنی عادات بدل لیتی ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موزوں حالات کے مطابق وقفے وقفے سے یہ ایک جھنڈ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر انہیں صحیح سے مونیٹر نا کیا جائے تو یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔

ان کا ایک چھوٹا سا جھنڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو صرف ایک ہی دن میں فصل کو اس طرح تباہ کرتا ہے کہ کسان کا روزگار تک ختم ہوجاتا ہے۔ اور خاص طور پر صحرا یا خشک سالوں میں حملہ آور ہونے والی ٹڈیوں کو دنیا کے سب سے خطرناک کیڑوں میں شمار کیا جاتا ہے۔


According to Research...

تحقیق کے مطابق ...

ٹڈیوں کی اس خطرناک وبا نے ۱۹۶۰، ۱۹۵۰ اور ۱۹۹۰ میں پاکستان کی زراعت کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارے، **FAO** کے مطابق سندھ پر حملہ آور ہونے والی ٹڈیاں ایتھوپیا، صومالیہ، یمن، سعودی عرب، اومان اور ایران سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے ضلع، چاغی پہنچی تھیں۔ پاکستان میں صحرائی ٹڈیوں کی افزائش کے دو سیزن ہیں اول فروری سے جون، جس میں یہ بلوچستان کا رخ کرتی ہیں اور دوم جون سے ستمبر جس میں یہ بدین (سندھ) سے ہوتے ہوئے بہاولنگر (پنجاب) میں داخل ہوتی ہیں اور سیزن ختم ہوجانے کے بعد یہ دوسرے علاقوں کا رخ کرتی ہیں۔ ایک بار پھر ان کا جھنڈ بلوچستان اور سندھ کے علاقے چولستان، رحیم یار خان، بہاولپور، تھر، میرپور خاص، عمرکوٹ، خیرپور اور سکھر میں ۳۰۰،۰۰۰ اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر حملہ آور ہوا۔ پاکستان میں لوکسٹ کا ایسا حملہ آخری بار ۱۹۹۳ میں دیکھا گیا تھا۔




ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے ۱۰ ممالک ٹڈی دل کی زد میں ہیں اور ان کو ۳ خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں ایک مغربی خطہ ہے جس میں افریقی ممالک موریتانیہ، سوڈان، ایتھوپیا اور صومالیہ شامل ہیں۔ وسطی خطہ مصر، سعودی عرب اور یمن پر مشتمل ہے، جبکہ مشرقی خطے میں پاکستان، ایران، بھارت اور افغانستان شامل ہیں۔



ریسرچ کے مطابق لوکسٹ کی موجودگی پہلی دفعہ سوڈان اور افریقہ کے علاقوں میں دیکھی گئی اور پھر وہاں سے یہ جھنڈ بھرت کرتا ہوا یمن اور سعودی عرب کے علاقوں میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے تقریباً مارچ کے مہینے میں اس جھنڈ نے ایران کے علاقے میں پہنچ کر تقریباً ۳۰۰,۰۰۰ اسکوائر کلومیٹر اور ایران کے ۷ خطوں پر حملہ آور ہوا۔

تحقیق کے مطابق یہ جھنڈ ۲۰۱۹ میں جون کے مہینے میں پاکستان میں مغرب یعنی ایران کے راستے سے داخل ہوا جبکہ تاریخ کے مطابق یہ علاقے پہلے سے ہی ٹڈیوں کے حملے کا شکار رہے ہیں۔



Environment conducive to breeding


افزائش نسل کے لیے سازگار ماحول

آب و ہوا کے لحاظ سے ریٹیلی مٹی، پودوں کی موجودگی اور ایسا ماحول جس میں نمی پائی جاتی ہو یعنی مون سون ٹڈیوں کی نسل کشی اور خوراک کے لحاظ سے موزوں ہے۔ چونکہ مادہ ٹڈی نم ریت میں انڈے دیتی ہے اور برسات میں پاکستان کے مختلف علاقوں کی ریت میں نمی بڑھ جاتی ہے لہذا یہاں اس کی افزائش نسل کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ عام طور پر ایسے کیڑے صحرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات مناسب ماحول نہ ملنے کی صورت میں یہ پودوں یا فصل پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس طرح اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔

Life Cycle

حیاتی دورانیہ

صحرائی ٹڈیاں مجموعی طور پر ۳ سے ۵ ماہ زندہ رہتی ہیں اگرچہ ان کی **Lifecycle** زیادہ تر موسمی حالات پر منحصر ہے۔ ان کی **Lifecycle** ۳ مراحل پر مشتمل ہے۔ انڈا، باپر اور بالغ **Adult**۔ انڈے تقریباً دو ہفتوں میں ہیچ ہوتے ہیں جبکہ ہوپرز ۳۰ سے ۴۰ دن کی مدت میں ۵ سے ۶ مراحل میں نشوونما پاتے ہیں اور بالغ ۳ ہفتوں سے ۹ ماہ میں بالغ ہوجاتے ہیں لیکن صرف ۳ سے ۴ ماہ ہی زندہ رہتے ہیں۔



Breeding Efficiency

افزائش کی کارکردگی



صحرائی ٹڈیاں بنیادی طور پر ریتیلی مٹی میں سم 90-158 سے ۱۰ سے ۱۵ سینٹی میٹر کی گہرائی میں انڈے دیتی ہیں۔ ایک تنہا مادہ تقریباً انڈے دیتی ہے جبکہ ایک شیرخوار مادہ کم سے کم ۸۰ انڈے دیتی ہے، زمین کی گرمائش سے ان سے بچے نکلتے ہیں جن کو بالغ ہونے میں تقریباً ۲۰ دن لگتے ہیں۔ مادہ عام طور پر اپنی پوری زندگی میں ۶ سے ۱۱ دن کے وقفے سے صرف ۳ بار انڈے دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

Locust flying efficiency

ٹڈیوں کی پرواز اور رفتار



ٹڈیوں کا جھنڈ ایک مربع کلومیٹر سے کئی سو مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے اور اس جھنڈ کے ہر مربع کلومیٹر میں ۳۰ سے ۸۰ ملین ٹڈیاں موجود ہوتی ہیں۔ صحرائی ٹڈیاں عام طور پر ۱۶ سے ۱۹ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ ٹڈیاں یومیہ ۱۵۰ سے ۲۰۰ کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ ٹڈیاں ایک طویل عرصے تک ہوا میں سفر کر سکتی ہیں۔

Food consumption of Locust

ٹڈیوں کے کھانے کی مقدار

ٹڈیاں ہمیشہ ایک جھنڈ کی صورت میں فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ یلغار کے دوران یہ پھل، سبزیاں، اناج، گھاس، پودے اور درختوں کے پتے حتیٰ کہ جانوروں تک کو چٹ کر جاتی ہیں۔

ایک صحرائی ٹڈی ایک دن میں تقریباً ۲ گرام کھانا کھاتی ہے۔ جبکہ ان کا ایک چھوٹا سا جھنڈ بھی اگر ایک دن میں اتنا ہی کھانا کھائے تو وہ کھانا تقریباً ۱۰ ہاتھیوں یا ۲۵۰۰ لوگوں کی خوراک پر مشتمل ہوتا ہے۔



Species of Locust

ٹڈیوں کی نواع واقسام

اگرچہ صحرائی ٹڈیاں بڑے فاصلوں سے ہجرت کرنے اور اپنی تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ٹڈی کی سب سے اہم species سمجھی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی species پائی جاتی ہیں جن میں

افریقی مائگریٹری لوکسٹ - افریقہ

اورینٹل مائگریٹری لوکسٹ - ساؤتھ ایسٹ ایشیا

ریڈ لوکسٹ - ایسٹرن افریقہ

براؤن لوکسٹ - ساؤتھرن افریقہ

موروکن لوکسٹ - نورتھ ویسٹ افریقہ - ایشیا
 بمبئی لوکسٹ - ساؤتھ ویسٹ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا
 آسٹریلین پلاگ لوکسٹ - آسٹریلیا
 ٹری لوکسٹ - افریقہ



Desert Locust



Migratory Locust



Bombay Locust



Tree Locust

7

Locust's Controlling measures

ٹڈیوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات

لوکسٹ کے اس حملے پر قابو پانے کے لیے ہوائی اسپرے، زمینی عملیات اور مختلف ٹریننگ پروگرامز شروع کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں کی اس سے بچاؤ سے متعلق رہنمائی کی جاسکے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہوائی اسپرے انتہائی زہریلے ہونے کی وجہ سے انسانوں، جانوروں اور یہاں تک کے پرندوں کو بھی بری طرح نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹڈی دل کا اڑتا ہوا جھنڈ نظر آنے کی صورت میں ڈرم بجا کر فصلات پر بیٹھنے سے روکا جاسکتا ہے۔ ٹڈی دل کو بذریعہ کیمائی ادویات، کلوروپائری فاس، لیمیڈاسائیہیلوٹھرین، ڈیلٹامیتھرین ۵ فیصد محلول اسپرے کر کے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن (ایف اے او) ٹڈیوں سے متاثرہ تمام ممالک کو عام ٹڈی کی صورتحال سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے اور حملے کے خطرے سے دوچار ممالک کی بروقت انتباہ کرتا ہے۔

ٹڈیوں سے متاثرہ تمام ممالک ٹڈی کا ڈیٹا ایف اے او کو منتقل کرتے ہیں جو موجودہ ٹڈی کی صورتحال کا اندازہ کرنے، چھ ہفتوں تک پیش گوئی کرنے اور موسم اور رہائش گاہ کے اعداد و شمار اور سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے اس معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں۔

مزید یہ کہ، ایف اے او ٹڈیوں کے مختلف پہلوؤں پر تربیت فراہم کرتا ہے اور اشاعتوں کو تیار کرتا ہے۔ ایف اے او نے Field Assessment mission کا انعقاد کیا اور سروے اور کنٹرول آپریشنز کے ساتھ ساتھ ٹڈیوں کی وبائوں کے دوران امداد بھی فراہم کرتا ہے۔



References

<http://www.fao.org/ag/locusts/en/archives/2124/index.html>

<http://www.fao.org/ag/locusts/swac/countries/pakistan/en/>

<http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/wshops/1237/>